



**THE  
SENATE OF PAKISTAN  
DEBATES**

*OFFICIAL REPORT*

Friday, April 19, 2013  
(92<sup>nd</sup> Session)  
Volume IV, No. 04  
(Nos. 01- 04)

**CONTENTS**

	Pages
1. Recitation from the Holy Quran .....	1
2. Point of Order:	
• Absence of Interior Minister in Spite of Chairman's orders .....	4
3. Motion Under Rule 263 to Dispense with the Question Hour..	7
4. Leave of Absence .....	8-10
5. Resolution:	
• Arrest of General (R) Pervez Musharraf and Removal of his Portraits from all the Public Buildings .....	11
6. Presentation of Reports .....	12
7. Discussion on Adjournment Motion:	
• Excessive load-shedding of Electricity in the Country ...	13-24
8. Statement of Interior Minister Regarding Arrest of General (R) Pervez Musharraf .....	25-35

Printed and Published by the Senate Secretariat, Islamabad.

## SENATE OF PAKISTAN

### SENATE DEBATES

Friday, April 19, 2013

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (Parliament House) Islamabad, at fifty two minutes past ten in morning with Mr. Chairman (Syed Nayyer Hussain Bokhari) in the Chair.

#### Recitation from the Holy Quran

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِينِهِمْ ۗ وَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خَنْ الْقَوْلِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ- وَتَبَلَّوْا نَفْسَكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ وَضُرِّيَّتَ ۙ  
وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ  
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ لَن يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ- يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ-

ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے۔ اور تم انہیں (ان کے) انداز گفتگو ہی سے پہچان لو گے۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں۔ اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا (اور) پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ مومنو! اللہ کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرمائندہ راہی کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ ہونے دو۔

(سورۃ محمد: آیات ۳۰ تا ۳۳)

جناب چیئرمین: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈار صاحب!

what is the position of Question Hour? Minister for Parliamentary Affairs.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! میرا یہی مشورہ ہو گا کہ sense of the House لے لیں اور ہم move کر دیتے ہیں، آپ rules suspend کر کے question hour کو suspend کر دیں لیکن questions کو defer کر دیں، lapse نہ ہونے I think that is the only solution۔ دیں۔

جناب چیئرمین: میاں رضا ربانی صاحب! whether we have question hour or not جس طرح ڈار صاحب نے بات کی ہے۔

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, I think that today we should dispense with the question hour because today is Friday, it is already eleven O'clock and there are some important issues.

جناب چیئرمین صاحب! میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے کل ہدایت کی تھی کہ the Interior Minister should be present in the House. اب گیارہ بج گئے ہیں اور کچھ ایسی developments ہیں جن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ Interior Minister House میں موجود ہوں اور وہ آکر کل والی باتوں کا اور جو آج ہوا ہے، ان کا جواب دیں۔ آپ in the meantime جو Ministers موجود ہیں، ان سے کہیں کہ وہ Interior Minister کو بلائیں، اگر یہ Interior Minister کی پرچی نہیں ہے تو۔ very clear cut direction to the Interior Minister that he should be present اور وہ اس طرح پرچیاں بھیج کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان بچائیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔

جناب چیئرمین: میاں صاحب! آپ ایک minute تشریف رکھیں۔ Minister for Water and Power گزارش یہ ہے کہ there was a specific direction yesterday, I conveyed to the Minister for Law and Parliamentary Affairs that the Interior Minister should be in the House to respond all these

یہ issues which have been raised by the honourable Members. So, how can I entertain this request. I am going to request آئی ہے، ایک adjourn the House for fifteen minutes, please ask the Interior Minister to be present in the House.

-----  
[The House was then adjourned for fifteen minutes]

[The House was reassembled at 11:12 A.M. after a break of 15 minutes with Mr. Chairman (Syed Nayer Hussain Bokhari in the Chair.)

-----  
Mr. Chairman: Yes Minister for Water and Power, what is the response.

Dr. Musadik Malik (Minister for Water and Power): Honourable Chairman and Senate members, I have reached both the offices of the Minister for Law and Cabinet Affairs as well as the Ministry of Interior. They indicated that there is a meeting going on with the Prime Minister and it was also indicated that they wrote a note and sent a note of excuse to the House indicating that there was a meeting because of which they would not be able to come. I have tried to reach them on their telephone numbers and cell numbers as well but my understanding is that because they are with the Prime Minister, they are not reachable through their cell phones.

جناب چیئرمین: میاں صاحب! ایک گزارش سن لیں کہ جو Motion move کرنی then we will proceed اس کو ذرا to dispense the Question Hour. تمہی take up this issue.

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب والا! اس procedure کو بھی take up کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا ہی serious issue ہے۔

Mr. Chairman: I understand it.

### Point of Order

### Absence of Interior Minister In Spite of Chairman's Orders

سینیٹر میاں رضنا ربانی: آپ نے کل clear cut instructions دی تھیں، not Minister categorical instructions نے بڑی once but thrice. Chair for Interior یہاں پر موجود ہوں۔ ایک اتنا اہم سوال یہاں پر، سینیٹ میں اٹھایا گیا ہے، اس کی continuation آج بھی چل رہی ہے، وزیر داخلہ ایک پرچی بھیج رہے ہیں آپ کو، ہاؤس کو، he may have a meeting with the Prime Minister, he may have a meeting with the President but Parliament takes precedence. He should have told the Prime Minister that I have been summoned, he has been summoned. You summoned him to the bar of Parliament. He was summoned to the bar of Parliament and he has refused to come to the bar of Parliament. Mr. Chairman, this cannot be taken lightly. I would move that the case of the Interior Minister, flouting the directions of the Chairman of the Senate, should be sent to the Privileges Committee. We will move a Privilege Motion against him and as a protest against his flouting the orders of the Chairman of the Senate, we will do a token walkout because this is no way. They have such important issues which are pending and just ان سے بھاگنے کے لیے، ان سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے وزیر داخلہ ایوان میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے۔ جناب چیئر مین! and as a mark of protest against what he has done we will do a token walkout.

*(At this stage various members staged a token walkout.)*

Mr. Chairman: Yes, Babar Awan sahib.

Senator Zaheer-ud-din Babar Awan: Mr. Chairman, before joining the walkout, I must bring this on record that under

Article 91 of the Constitution, he is responsible to come over here and give the answer. So, he has violated Article 91 of the Constitution.

میں دوسری بات یہ record پر لانا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کی جو گرفتاری ہے، وہ نمائشی ہے، اس طرح گرفتاریاں نہیں ہوتیں اور جو ان کا remand ہے وہ بھی درشنی ہے، اس لیے کہ remand ان کا ہوتا ہے جو remand پر ہوتے ہیں، گرفتاری ان کی ہوتی ہے جو گرفتار ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے۔ شکر یہ۔

*(At this stage Senator Zaheer-ud-din Babar Awan also walked out.)*

Mr. Chairman: Yes, Tahir Hussain Mashhadi sahib.

Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Thank you very much Mr. Chairman. I, on behalf of MQM add my voice to my colleagues and friends of this honourable House. There is no doubt whatsoever that a summoning by the Chairman of the Senate to bar of Parliament has been violated then of course the Constitution has been violated, the Rules of Procedure have also been violated and all norms of Parliamentary behaviour and all expectations of a democratic society have been violated that is because of the matter which this honourable Senate has already been seized off, my Adjournment Motion yesterday which was to be discussed today in the presence of the Minister but unfortunately, there is another point which was again requiring his personal and immediate attention and that was the continuous killing of MQM workers in Karachi. Two or three MQM workers are being killing daily and no action is being taken whatsoever to undo this. No go areas are existing in Karachi, no action is being taken to clear the no go areas and every type of effort is being made to deny MQM the chance to conduct its election campaign.

*(At this stage the members came back to the House.)*

Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi:

Sir, these heinous crimes, these barbaric killings in Karachi must stop and the honourable Minister, whenever he gets free or whatever he feels like the Parliament is to be listened to, he should take notice of it immediately and issue orders for Karachi to provide the protection for which we, under the Constitution of Pakistan, as citizens of Pakistan, are entitled to. So, the killings of the most important political workers or activists are daily affair of Karachi.

Sir, the matter before this House, the Interior Minister's grave violation of all norms of Parliamentary behaviour, Muttehida Qaumi Movement joins all the other honourable Members of this House and walks out.

*(At this stage Senator Col. (R) Syed Tahir Hussain Mashhadi also walked out.)*

Mr. Chairman: Yes, Raza Rabbani sahib.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, the excuses which

we were told کہ وزیر داخلہ نہیں آسکتا کیونکہ CCI کی بھی meeting ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بڑے واضح طور پر کھنا چاہتا ہوں CCI کی meeting for the record that the meeting of CCI is un-Constitutional. نگران حکومت اس بات کی مجاز نہیں تھی کہ وہ CCI کو reconstitute کرے اور CCI کی meeting call کرے اور اس کی وجہ سے Clause 4 of Article 153 of

the Constitution ہے the Constitution and Clause 4 of Article 153 of the Constitution says; "The Council shall be responsible to *Majlis-e-Shoora* and shall submit its annual report to both the Houses."

Now, it says, "*Majlis-e-Shoora*", it does not say, the Senate and the National Assembly and *Majlis-e-Shoora* under Article 50 of the Constitution it is made up of the President, the Senate and the National Assembly and today Parliament is incomplete because the National Assembly has been dissolved and the constituencies have been called to elect the electorate. So, therefore, it is incomplete,

the Institution to which the CCI is answerable, that is not complete, therefore, the reconstitution of the CCI is un-Constitutional and any decision that they may take today will be of a far reaching effect and no future elected Government will be bound by those decisions that are taken in today's meeting.

**Mr. Chairman:** Minister for Water and Power, under Article 91, there is a collective responsibility of the Cabinet. Please get in touch with your colleagues.

Minister for Law and Parliamentary Affairs and Minister for آپ try to get him in the House session یہ جب تک چل رہا ہے Interior سے رابطہ کریں۔ جب تک یہ session چل رہا ہے try to get him in the House otherwise we will pursue according to the law. in the ڈار صاحب meantime the resolution to dispense the question hour concerns of the آپ Law Minister سے اور ان سے رابطہ کر لیں اور انہیں منسٹر صاحب، آپ Law Minister سے اور ان سے رابطہ کر لیں اور انہیں منسٹر In the meantime we honourable members of the Senate convey are taking up other agenda items۔

### Motion Under Rule 263 to Dispense with the Question Hour

**Senator Muhammad Ishaq Dar:** Honourable Chairman, I beg to move that under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, the requirement of Rule 41 of the said rules regarding Question Hour be dispensed with but the questions should not be lapsed and be deferred.

**Mr. Chairman:** It has been moved that under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, the requirement of Rule 41 of the said rules regarding Question Hour be dispensed with and the questions be deferred.

*(motion was carried)*



## Leave of Absence

جناب چیئرمین: جناب محمد جہانگیر بدر صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر مورخہ 18، 19 اپریل کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے۔  
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب اسحاق ڈار صاحب ذاتی مصروفیات کی بنا پر 18 اپریل کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے۔  
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب ہری رام صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر 19، 18 اپریل کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے۔  
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب مولا بخش چانڈیو صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر 19، 18 اپریل کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے۔  
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب محمد یوسف بلوچ صاحب نے ذاتی مصروفیات کی بنا پر 19، 18 اپریل کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے۔ کیا رخصت منظور ہے۔  
(رخصت منظور کی گئی)

جناب چیئرمین: جناب احمر بلال صوفی صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ بعض سرکاری مصروفیات کے باعث آج مورخہ 19 اپریل کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ فرحت اللہ بابر صاحب، reports lay کر لیں اس کے بعد points of order لیں گے۔

Senator Farhatullah Babar: I will talk about yesterday's discussion in which a resolution was to be brought and the resolution will be presented by honourable Ishaq Dar sahib but I want to request for the suspension of rules if you permit please.

Mr. Chairman: Dar *sahib* let somebody from the Cabinet

come. پہلے ان سے جواب لے لیتے ہیں۔

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, the House can't be held hostage.

Mr. Chairman: No, it is not being held hostage.

Senator Mian Raza Rabbani: It is. The Caretaker Interior Minister is holding the House hostage. He had ample notice وہ نہیں آئے، اس نے پارلیمنٹ اور چیئرمین کے directives کو flout کیا ہے۔ The Cabinet is present, it is their collective responsibility. If they want to oppose the motion, let them oppose it. Put the motion to the House but the House can't be held hostage to the Interior Minister.

Mr. Chairman: It can't be, I agree with you. Let us have a response from the Minister for Water and Power.

وزیر صاحب، فرمائیں؟ how to proceed اگر ministers available نہیں تھے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اجلاس نہ بلائی۔ اب اجلاس in process, in progress ہے and the

Council of ministers say that they can't come. مطابق کے اطلاع میری ministers نے Interior Minister *sahib* اور meeting بارہ بجے کے بعد ہے اور Common Interests Security request بھیجی ہے اور کہا ہے کہ وہ security situation کی وجہ سے مصروف ہیں۔ Security situation is being discussed in the House. This is more important place where he should make his policy statement. میں بیان دینے کی بات نہیں ہے this is the forum where he should have been present and

he should have made statement over here. آپ کو پہلے بھی کہا ہے kindly get in touch with your other colleagues, ask them otherwise we will proceed according to the rules.

ڈاکٹر مصدق ملک: جناب! میں نے فوری طور پر staff کو کہا ہے کہ ان سے دوبارہ رابطہ کریں۔ I will personally contact them اور میں اس وقت floor of the House پر جو sentiments ہیں، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں and I would convey these sentiments very diligently to the respective minister.

Mr. Chairman: It is not only confined to the sentiments but it is beyond that also.

کل مشدہی صاحب کا جو adjournment motion تھا اس پر the minister is here to respond. If you want, that can be taken up۔ اسحاق ڈار صاحب۔

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: جناب چیئرمین! میری گزارش یہ ہو گی کہ آپ نے دونوں اطراف کے میرے دوستوں کے sentiments دیکھے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ it is a unanimous resolution اور جیسا کہ ہماری tradition ہے کہ ہم پہلے بیٹھ کر اس کو طے کر لیتے ہیں۔ So, you will find it is a unanimous resolution۔ January, 2012 میں بھی ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں یہ process چلنے دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ وزیر صاحب نہ آئیں اور جس طرح سے کچھ apprehensions ہیں۔ ہمارا جو ایک ضروری کام ہے، اس کو ختم کر لیں۔ اگر ان کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے تو وہ جب آئیں گے تو response دے دیں۔ آپ، اس کو اس طرح کر لیں۔

جناب چیئرمین: فرحت اللہ بابر صاحب۔

Senator Farhatullah Babar: Thank you Mr. Chairman.

I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the requirements of the Rules 25, 26, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed with in order to enable the House to discuss and pass the resolution regarding the escape of Gen. (R) Pervez Musharraf from the Court room after the cancellation of his bail.

Thank you very much and kindly put it to the House.

Mr. Chairman: The resolution which has been moved by Mr. Farhattullah Babar is being put to the house.

*(The motion was carried)*

Mr. Chairman: Ishaq Dar *sahib*, you want to move it?

Resolution:

Arrest of General (Retd.) Pervez Musharraf and Removal of his Portraits from all the Public Buildings.

Senator Muhammad Ishaq Dar: Yes sir, on behalf of the House, I will move this. This is unanimous resolution.

“The House reiterates its unanimous resolution of 23<sup>rd</sup> January, 2012, calling upon the Federal Government to arrest Gen. (R) Pervez Musharraf and proceed against him under Article 6 of the Constitution for committing treason. This House further calls upon the Federal Government to arrange removal from all public buildings the portraits of retired General Pervez Musharraf”.

Mr. Chairman: The motion moved by Mr. Muhammad Ishaq Dar is being put to the House.

*(The motion was carried.)*

جناب چیئرمین: رضاربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب چیئرمین! 23 جنوری اور آج کی دونوں بڑی تاریخی resolutions ہیں۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جمہوری جدوجہد کی عکاسی کرتی ہیں۔ House کی جانب سے میری آپ سے استدعا ہو گی کہ ان resolutions کا متن plaque یا کسی اور form میں prominently بنا کر سینیٹ کے باہر display کیا جائے کیونکہ یہ ہماری جمہوری جدوجہد جو سینیٹ نے جنرل ضیا کے وقت سے لے کر آج تک کی ہے، اس کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات ہو گی۔

Mr. Chairman: Your proposal would be considered in consultation with the Leader of the Opposition and other Parliamentary Leaders. Col. Mashhadi is not here, so, we move on to Item No. 5. Mushahid Hussain Syed.

### Presentation of Reports

Senator Mushahid Hussain Syed: Thank you sir. In keeping with the traditions of the Senate Defence and Defence Production Committee, I am pleased to present the report No. 4 which is in print form and I would like to specially thank the honourable members of this Defence and Defence Production Committee some of whom are present here including Senator Ishaq Dar *sahib*, Raja Zafar-ul-Haq *sahib*, Farhatullah Babar *sahib*, Mashhadi *sahib* and Sehar Kamran *sahiba* has come all the way from the holy land specially to attend today's presentation. I am grateful to all the members for the cooperation, also to you and to Secretary Senate and also the Special Secretary of the Senate who is the Secretary of Defence Committee Mr. Amjad Pervaiz and my team of researches for all their support and it is in keeping with the tradition that you have said that if Parliament and the Defence Committee have to lead on issues of National Security in Defence then they have to lead through ideas, initiatives and innovations, ہماری کارکردگی آپ کے سامنے ہے اور انشاء اللہ ہم اس پر اور بھی debates کرانیں گے and we will promote harmony between *khaki* and *mufti*. So, we can build a better tomorrow based on democracy, defence and development. Thank you.

Mr. Chairman: Would you formally like to move that or what you have said is enough?

Senator Mushahid Hussain Syed: I think that is enough.

Mr. Chairman: O.K. The report stands presented. We move on to Item No. 6. Minister Incharge of Finance, Revenue, Planning and Development, Economic Affairs and Statistics may move Item No. 6.

آپ ان کے behalf پر کر دیں۔

Dr. Musadiq Malik: Sir, I beg to lay before the Senate the Second Quarterly Report for the year 2012–2013 of the Central Board of Directors of the State Bank of Pakistan on the state of Pakistan's Economy, as required under section 9A(f) of the State Bank of Pakistan Act, 1956.

#### Discussion on Adjournment Motion:

#### Excessive Load Shedding of Electricity in the Country

Mr. Chairman: Report stands laid. We move on to Item No.7 regarding remaining discussion on the admitted adjournment motion moved by Col. (Retd.) Syed Tahir Hussain Mashhadi on 18<sup>th</sup> April, 2013, on the following subject:-

“Regarding excessive load shedding of electricity in the country.”

اس پر کون صاحب بات کریں گے؟ جی زاہد خان صاحب۔ ایک گزارش ہے there is a request from the honourable Minister for Water and Power that he has to attend a meeting at 12.00, we would like to listen him تو آپ بات کر لیں۔ also اس لیے kindly be brief تاکہ ہم آج ان کا جواب لے لیں۔

سینیٹر محمد زاہد خان: ٹھیک ہے۔ جناب چیئرمین! اس وقت ملک میں energy کی 12 hours ابتر صورتحال ہے اور خصوصاً electricity کی۔ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 12 hours ہے لیکن یہ 12 hours نہیں ہے، یہ urban areas میں 16 hours سے بھی زیادہ ہے اور rural

areas میں تو 22,23 hours ہو جاتی ہے۔ میں راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں کہ کل شام 5 بجے بجلی گئی اور 9 بجے آئی، اب مجھے بتائیں کہ ایک گھنٹہ کیسے بجلی جاتی ہے۔ میں نے 10 تاریخ کو Standing Committee on Water and Power کی meeting بلائی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آگے گرمی آرہی ہے، industries affect ہو رہی ہیں، اس کے لیے آپ کیا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ساری صورتحال پر 13 تاریخ تک قابو پالیں گے۔ میں نے کہا کہ کیسے قابو پالیں گے، تو انہوں نے کہا ہمیں اتنے ارب روپے دیے گئے ہیں اور جب ہم وہ IPPs کو pay کر دیں گے تو پھر صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ بجائے بہتری کے مزید worst صورتحال میں چلے گئے۔ ہم نے IRSA والوں کو بھی بلایا تھا، ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی جو provinces کی water requirement ہے وہ کب start ہو رہی ہے، اگر یہ IPPs کو 20 بلین بھی دیں گے تو میرے خیال میں وہ پندرہ دن یا ایک مہینہ بھی نہیں چلیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی default میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 اپریل کے بعد صوبوں سے requirement زیادہ آجائے گی تو ہم زیادہ release کر دیں گے اور hydle پر generation زیادہ ہو جائے گی۔ مگر آج بھی وہی صورتحال ہے، لوگوں کو بہت پریشانی ہے، businessman کاروبار کے لیے رو رہے ہیں، Industrialists رو رہے ہیں، سکولوں میں بچوں کے papers ہو رہے ہیں، گرمی ہے، عوام علیحدہ پریشان ہیں۔ پہلے تو یہ تاثر تھا کہ elected government ہے، پتا نہیں پیسے کہاں خرچ کر رہی ہے۔ اب تو caretaker بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کرتے، وہ فنانس منسٹر سے بات کریں اور IPPs کو پیسے دیں۔ جب تک صوبے آپ سے پانی کی requirement نہیں مانگ رہے تو ایک مہینے کے لیے تو کچھ کر لیں، آپ کے پاس ایک مہینہ ہے۔ خدا را اس قوم پر رحم کریں۔ جس کا دو سو روپے bill آتا تھا، اب ہزار آ رہا ہے اور ادا بھی کر رہے ہیں۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 13 اپریل کے بعد situation ایسی نہیں رہے گی اور لوڈ شیڈنگ میں بہت کمی آجائے گی۔ ایک تو اس forced load shedding نے قوم کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا تھا خدا را! ٹی وی پر آئیں اور قوم کو بتائیں کہ ہمارے پاس اتنی بجلی ہے، ہم اتنے گھنٹے بجلی دیں گے اور اتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں گے۔ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت بجلی آئے گی کہ وہ پانی وغیرہ بھر لیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو proposal دی کہ آپ یہ کام DISCOS کے حوالے کر دیں، جتنی mega watt انہیں ملے، وہ اس کے مطابق arrangement کریں گے۔ آپ اسلام آباد سے بٹن دباتے ہیں اور لاہور میں بجلی غائب، آپ اسلام آباد سے بٹن دباتے ہیں اور حیدرآباد میں بجلی غائب، آپ یہاں سے بٹن

دباتے ہیں اور کوئٹہ اور پشاور میں بجلی غائب۔ وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ خدارا اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ اس forced load shedding کے عذاب سے قوم کو نجات ملے۔ آپ ٹی وی پر آکر قوم کو بتائیں کہ اتنے گھنٹے، اس وقت سے اس وقت تک لوڈ شیڈنگ ہوگی تاکہ لوگ mentally تیار ہوں۔ اگر آپ اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے تو یہ مسئلہ مزید بڑھے گا۔ میں honourable Minister سے عرض کروں گا کہ وہ اس پر کوئی action لیں۔ یہ بیورو کریسی سب گند کر رہی ہے، میرے خیال میں جتنا اس ملک کو بیورو کریسی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے کوئی اور نہیں لے جا رہا۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جی مشاہد حسین سید صاحب۔

Senator Mushahid Hussain Syed: Thank You Mr.

Chairman. I am glad that this issue has been raised.

میرے خیال میں basic دو تین issues ہیں اور honourable Minister for Water and Power is here and he has also expertise on this issue. So, I would like him to clarify a few points.

ایک تو ہے کہ there are combination of two things, ایک طرف نالائق ہے to formulate an alternative policy اس کے لیے vision نہیں ہے، ہم نے 30 سال سے کالاباغ ڈیم کو focus کیا، وہ نہیں بن سکا تو متبادل دیکھ لیں، wind power ہے، solar power ہے، تھرکول ہے، تھرکول کے بارے میں Chinese had invested 27 million dollars on feasibility study in 2004. 120 experts بھیجے، ہمارے جو bureaucrats تھے انہوں نے 0.3 cents پر sabotage کر دیا کیونکہ یہ corruption اس لیے ہے کہ یہاں thermal lobby ہے، جو oil کی lobby ہے، 80% imported oil ہے، they do not allow that.

The second issue is and I would like the honourable Minister to respond to that. Is it an issue only of circular debt or is it also an issue that we do not have the capacity producing the



relevant electricity? آپ کھتے ہیں کہ installed capacity 24 thousand سے زیادہ  
one billion rupees are wasted by ہر روز but we are able to do that. ہے  
WAPDA in either line losses, یا بجلی چوری یا پرانے equipment, every day  
without exception and it is passed on.

Mr. Chairman, recently I was in India,  
وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن وہاں وہ کھتے ہیں what is called smart load  
shedding. انہوں نے factories and consumers کا علیحدہ علیحدہ programme بنایا ہے۔  
سینیٹر زاہد خان صاحب ٹھیک کھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکتے ہیں۔ میرے خیال میں  
WAPDA itself is a relic of the one unit. اب وقت آ گیا ہے کہ  
and power development authority جو one unit تھا، اس سارے کو  
centralize control میں دیا گیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ  
issue of electricity generation to the provinces also and let it be  
done at that level and that can be one way out and I would like  
the honourable Minister who is caretaker, ان پر responsibility نہ ڈالیں، یہ  
مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، یہ بیچارے چار ہفتے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہر بات پر گڑا مل رہا ہے۔  
یہ اتنی بڑی نالائقی اور مافیا ہے، there are cartels and mafias which need to be  
controlled, there has to be a national strategy but at least I will  
request him کہ سرکاری سچ نہ بولیں، صحیح بات بتائیں کہ facts کیا ہیں،  
as he knows  
them and then tell us what is the way forward. Thank you very  
much.

جناب چیئرمین: شکریہ۔ بابرا عوان صاحب موجود نہیں ہیں۔ جی Minister for  
Water and Power.

Dr. Musadik Malik: Honourable Chairman, honourable  
Senate members, excellencies, ladies and gentlemen.

I begin by saying the following:-

The story that you have laid out is true. The resolution that you have submitted that there is 18 hours of load shedding in the country is partially true. There is a load shedding in the country and at some places it is probably more than 18 hours but an average there is about 12 hours of load shedding in the urban areas and there is about 14 hours of load shedding going on in the rural areas. I would also like to submit and restate that a half hearted attempt has been made to clear the circular debt. There has been no attempt made to clear any form of debt. What you don't know is that PSO is for all practical purposes bankrupt and it is bankrupt because of us. What you also don't know is that we are in default right now under all International treaties of the IPPs. Therefore, I would basically like for you to record some of these findings as well in addition to the findings that you have listed here. It is, I would say the accident of learning that I have been open to the grace of this House. Sir, would you allow me to finish.

Mr. Chairman: You may continue.

Dr. Musadik Malik: It is only through the accident of learning or ignorance so to say that I was introduced to the grace of this House and the emotional rhetoric and conversations that have become prerogative, otherwise I was more ignorant two days ago. So, I was talking to my daughter, I called her up and I told and talked to her about the proceedings of this august House and I told her کہ کتنے درد سے یہاں پر کتنی زیادہ critical thinking کی جاتی ہے اور کتنی محبت سے اور at short of falling apart people here talk about the misery of کیسے یعنی of the people of Pakistan. And I quote, "the people of Pakistan are undergoing unprecedented hardship and misery because of the extreme and excessive and unwarranted load shedding of electricity in the country" and she said, Baba, how long has this been

happening and I said for as long as we have had the House and she said, Baba, the people who are talking about all of these things, these honourable people have they been inducted here recently and I said, no my darling, these people have been there for decades, talking about these issues, burning their heart, pouring their heart to the august House as well as to the people of Pakistan. And she said, Baba then why is it that we can't basically open the tap water and drink water? Why is it that we can basically turn on the electricity switch, press it and get electricity? Why is it that the 60 to 80% of the affluent people of Pakistan have got standing outside of their doors? Why is it that any man who wants his child to have a time worth of education can't send their child to the local State school? Why is it that when I fall sick you don't take me to the state hospital? And why is it that the alternatives to high cost thermal power have not been explored? And why is it that the issue of circle debt has not been resolved? Was the House not in order when all of this was happening? Very respectfully sir, these are the questions if I were a part of the Senate I should be asking

میں توجہ بات کی لہر میں بھول ہی گیا۔

میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب

دل دیکھ کر طرز تپاک اہل دنیا جل گیا

جس دن یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ جناب چیئرمین! کیا یہ بجلی آج بند ہوئی ہے؟ 1992 سے یہ بجلی بند ہے۔ درمیان میں چھ سال کے لیے بجلی آئی اور اس میں بھی ایک سال کی dip ہے جس میں ہمارا net demand supply gap negative تھا۔ 2006 سے اس ملک میں بجلی بند ہے۔ جناب چیئرمین! یہ آج ہمیں پتا چلا ہے کہ گاؤں کے اندر چودہ گھنٹے اور سولہ گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے؟

If I had two people which I have now and I was given two days for the next twenty years I will be able to give you with 95%

confidence interval, the exact power needs of this country, the exact 95% confidence interval, it takes the population, the population growth rate and an assumption about the GDP growth rate and I can tell you what the per capita requirement of power in this country is going to be and I ask you, do you not know what the power requirement of this country was going to be and I ask you were there, no solutions on the horizon and I ask you if those solutions were not executed, may I humbly ask you why? My daughter is fourteen, load shedding outlives her, in this country, so, she could not ask this question, so. I took upon myself to ask this question. Now why do we have this?

جب اس ملک میں یہ قانون بنایا گیا کہ چودہ روپے کی بارہ روپے میں تو ہمارا regulator کہتا ہے کہ ہم نے calculation کی ہے چودہ سے اٹھارہ روپے کے درمیان بجلی کی قیمت fluctuate کرتی ہے۔ جب یہ قانون بنایا گیا کہ چودہ روپے کی بجلی on average آٹھ سے نو روپے کی بیچی جائے گی تو وہ آپ کے سامنے آیا؟ نو روپے کی بجلی کا ہمیں ڈھکوسلہ دیا جاتا ہے جب کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ۸۰ فیصد پاکستانی اس بجلی کے لیے دو سے چار روپے دے رہے ہیں چونکہ ہم نے tariff brackets بنا رکھے ہیں۔ بارہ روپے تو ہم average بتاتے ہیں۔ پاکستان کی اسی فیصد آبادی دو روپے اور چار روپے دیتی ہے۔ تو آپ کے سامنے ضرور کوئی نہ کوئی قانون آیا ہوگا جہاں پر کہا ہوگا کہ ہم آج سے چودہ روپے کی بجلی بنائیں گے اور دو روپے، چار روپے اور بارہ روپے کی بیچیں گے، وہ کہیں نہ کہیں ضرور منظور ہوا ہوگا۔ میں تو نیا آیا ہوں۔ یہ ضرور سوچا گیا ہوگا کہ ہم ایسی subsidy لیں گے، دیں گے تو اس subsidy کے بعد ہوگا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر بے انتہا تجارت ہوگی اور بے انتہا growth ہوگی اور ہم اس growth سے جو ٹیکس آتا ہے وہ اکٹھا کریں گے اور اس subsidy کے اندر ڈال دیں گے اور اس سے لوگوں کو بھی نجات ملے گی اور ملکی ترقی بھی ہوگی۔ جناب چیئرمین! کیا Industrial growth میں ترقی ہوئی؟ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پاس گیس کے کتنے ذخائر ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان گیس کے ذخیروں کو ہمیں کیسے allocate کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے گیس کے ذخائر جانے چاہئیں یا CNG Stations پر یا یہ جانے چاہئیں low cost energy industrial پیداوار کے لیے یا

عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے۔ کیا یہ فیصلے ہوئے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا، چھوڑ دیں اس بات کو یہ لمبی بات ہے، میں آپ کو ایک ہزار باتیں بتا سکتا ہوں۔ آپ جب بھی مجھے بلائیں گے یا بٹھائیں گے میں بتاؤں گا۔

Mr. Chairman: You are mentioning about the causes but the House needs answer and reply that what measure you are going to take. That is the issue now.

Dr. Musadik Malik: Sixty seconds to respond sir.

جناب چیئرمین: منسٹر صاحب! تشریف رکھیں۔ جی اسحاق ڈار صاحب۔

Senator Mohammad Ishaq Dar: Mr. Chairman, I think the arrogance and the language used is totally unacceptable. The Caretaker Government has no business except try and do the best to hold free and fair election. As you very rightly pointed out don't give us lecture, we know all what has happened in this country, if you have any idea to improve the situation and you are taking currently any measure just tell us.

Mr. Chairman: That what I have said.

Senator Mohammad Ishaq Dar: Don't be rude, you have been contemptuous to this House. Only address the Chair, you have no business to point out to the people, learn the manners how to proceed in this House.

Mr. Chairman: He has said that he is a novice.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: ہو سکتا ہے یہ sentiments as a Pakistani, میں بہہ گئے ہوں لیکن ہمارے sentiments بھی اسی طرح ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دودن دیکھے ہیں۔ If we have to put the blame game، let politicians، وہ ایک علیحدہ بات ہے، do that. We know, we have given recommendations, go to the library and pick up the budget speech. You will find all the solutions to this energy crisis if we had acted upon, that is what we regret,

we have not acted upon as a nation. آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ ابھی لائبریری جائیں اور میری جون 2012 کی تقریر پڑھیں جس میں، میں نے بحث پر debate open کی تھی۔ ہمیں ان معاملات کا پتا ہے کہ کیا ہیں، بہتر ہو گا کہ آپ اپنا کام کریں۔

We are grateful to you. You are giving time to the nation but then please observe some decency. Everybody is uncomfortable here seeing your impressions, your arrogance and the way you are speaking in the Senate. With all due respect, it is not the way. I appreciate you as caretakers, you are serving the nation, I appreciate that. Tell us what are the issues.

Secondly, the more important issue is that Interior Minister is here, I think we should also handle that issue. We have timeline and it is time for the 'Jumma' prayers. I hope nothing is taken as personal. I am just giving an honest advice, let us move on because we have very limited time. Thank you Mr. Chairman.

Senator Mian Raza Rabbani: Sir, there is a stranger in the chair of the Leader of the House.

Mr. Chairman: He is moving on. He is a cabinet member. Raza sahib, please be patient, they are caretakers for a few days. Minister for Law and Parliamentary Affairs.

Mr. Ahmer Bilal Soofi: Mr. Chairman, I had requested yesterday in writing of my leave because of the meeting today, this morning. We are having two meetings successively but I stepped out of them. I will request if I may be allowed to go there. There is a meeting of Council of Common Interests and all the Chief Ministers are there. There is another meeting about law and order going on at this point of time. All the Chief Ministers are there, so I would request that my leave be entertained.

جناب چیئرمین: وزیر قانون صاحب! گزارش یہ ہے کہ اگر کابینہ کے ارکان اتنے ہی مصروف تھے تو پھر یہ سیشن نہ بلایا جاتا۔ سی سی آئی کی میٹنگ بے یا کچھ بھی ہے، this forum is more important. Particularly, I said yesterday and conveyed to you to please ask the Interior Minister to be here. This is the forum where the security measures کی وجہ سے وہ مصروف ہیں۔ security measures are to be discussed. These are the people who represent the people of Pakistan. That is why I gave the directions کرنا چاہتے ہیں یا اس ایوان میں کرنا چاہتے ہیں؟ and we cannot tolerate flouting the orders of the Chair. Thank you Those that the Minister has turned up. میں نے آپ کو وقت دیا تھا کہ انہیں بلالیں۔ Those were the issues which were very important. اس وقت اس فورم کے علاوہ پاکستان میں کوئی منتخب ادارہ موجود ہے؟

جناب احمر بلال صوفی: بالکل نہیں ہے۔

جناب چیئرمین: عوام کے منتخب نمائندے یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر کابینہ یہاں آکر جواب نہیں دے سکتی تو ہمیں جواب دے گی؟ یہ طریقہ درست نہیں کہ آپ ایک پرزہ سالکھ کر بھیج دیں۔  
Don't you realize what is Parliament?

Mr. Ahmer Bilal Soofi: Sir, I understand. What I am trying to say is.....

Mr. Chairman: Do you want to leave, you do not have any issue today?

جناب احمر بلال صوفی: جی آج میرا کوئی issue نہیں ہے۔

Mr. Chairman: The Issue relates to the Minister of Water and Power, he has made a statement. There is an issue relating to Minister for Interior, he is available. Law Minister sahib.

Mr. Ahmer Bilal Soofi: Sir, CCI's meeting has not started yet. The meeting which is going on, since all the Chief Ministers are here, so they are having a discussion on law and order because at 3'O clock we have a meeting with the Chief Election Commissioner. We have also communicated the sense of the House to the Chief Election Commissioner for convening a high level consultation. Last evening, I also met the Chief Election Commissioner. The law and order situation which has been voiced by this House is an issue. When the CCI's meeting commences, I will communicate the concerns of the members and I will put it on the table.

Mr. Chairman: Thank you. Interior Minister *sahib*, yesterday, an issue was raised regarding the rejection of bail of General Musharraf and what measures have been taken by the Government. What is the Government's position on this issue, please apprise us about that.

سینیٹر حاجی محمد عدیل: جناب! وزیر موصوف تو جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس House کے جذبات کو ہم CCI کی میٹنگ میں convey کر دیں گے۔ جناب! آپ اس سلسلے میں ruling دیں اور اس میٹنگ کو stop کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟

Mr. Chairman: Look, I cannot take any action simply on a point of order. Rules should be adopted for that, if you follow the rules, I will proceed accordingly. Ishaq Dar *sahib*.

سینیٹر محمد اسحاق ڈار: دیکھیں جی، ہر چیز کا ایک solution ہے۔ What I have sensed کہ چیف منسٹر صاحبان کو بلایا گیا ہے، امن و امان کی صورت حال کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمارے بھی concerns ہیں، ملک میں law and order کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے متعلق they are holding a meeting, that is good. Now, probably availing the presence of those four Chief Ministers نے notify کیا ہے تو وہ آئین



They cannot notify. The CCI is accountable to the Parliament. Parliament is *quasi*-complete. Only Senate is here, National Assembly is not yet elected. Why call it meeting of the Council of administrative meeting? Common Interests? same agenda کے تحت کر لیں۔ آپ کیا message دینا چاہتے ہیں کہ ہم غیر آئینی کام کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور وہی کریں گے۔ آپ میٹنگ کر لیں۔ Nobody is stopping you. Hold that meeting, let the Chief Ministers be there, deal with the agenda but do not call it the meeting of Council of Common Interests. That is the solution.

Mr. Chairman: Law Minister has said that your observations would be conveyed over there.

سینیٹر میاں رضا ربانی: اس کا مطلب ہے کہ meeting convene ہوگی۔ یہ ایک غیر

آئینی اقدام ہے۔ Reconstitution of CCI is unconstitutional.

Mr. Chairman: Raza Rabbani *sahib*, your observations have been noticed and these are on record. Interior Minister *sahib*.

سینیٹر میاں رضا ربانی: جناب! وزیر داخلہ صاحب کیا بات کریں گے؟

جناب چیئرمین: آپ نے جو issue کل raise کیا تھا، اس پر جواب تو لے لیں۔

سینیٹر میاں رضا ربانی: جناب! ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ Prime Minister

Bhutto *sahib* was put in kotri, Mohtarman was put in isolation, Mian *sahib* was put in isolation. یہاں بات مختلف ہے۔ انہیں farm house میں رکھ کر اسے

sub-jail قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ duality of law نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

Mr. Chairman: Let us have a response from them. Interior Minister *sahib*.

## Statement of Interior Minister Regarding Arrest of General (Retd.) Pervez Musharraf

Malik Mohammad Habib Khan (Minister for Interior):

Honourable Chairman Senate and the honourable members, I have the greatest respect for this House. I have no excuse to take leave from the House at any cost and that impression, if at all, has been generated, I apologize from the House because there is no such excuse. There is a very high-powered meeting, as per the directions of the House, that we should address the problem of law and order. So the meeting was arranged and it was presided by the Prime Minister of Pakistan. The Chief Ministers were there and it was my subject as the Minister for Interior. I requested for leave from the Senate. So, I must explain my position right in the outset, so that there is no such apprehension that I tried to avoid coming to the House.

Now, coming on to the issue or the problem, I would like to know as to what is the problem because I have been very busy the whole day and night. Right now, I was in meeting. I would like to know what is the issue. I have just entered the House.

Mr. Chairman: Ok. Interior Minister *sahib*, issue is this; today a resolution has been passed also, yesterday, whatever happened in Islamabad High Court and then at the premises of residence of General Musharraf, there was a particular order of his arrest also and the local administration did not take certain measures. That was the concern of the members of the Senate. They wanted to know the position of the Federal Government. What measures they are going to take and what measures they had taken so far, that is the issue. You can respond on that.

Malik Mohammad Habib Khan: Yes, now that the question is specified and we are quite alive to the situation. Now the arrest has been constituted and General Musharraf is now in our custody. He has been transferred to judicial lock up and his house has been declared as a sub-jail.

(Interruption)

Mr. Chairman: Mian *sahib*, please hold on, let him conclude, it is your right but let him conclude first. Yes Malik *Sahib*, anything else you want to say?

Malik Habib Khan: Sir that's all.

Mr. Chairman: Thank you. Rafiq Rajwana *sahib*.

سینیٹر ملک محمد رفیق رجوانہ: شکریہ، جناب چیئرمین! ابھی معزز وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ he has been arrested and he has been sent to judicial lock up. As a student of law, I was very happy that he has been treated in accordance with the law شاید وہ اڈیالہ جیل بھیجے گئے لیکن یہ بڑی عجیب سی جیل ہے جو ایکڑوں پر محیط ہے، یہ farm house ہے اور بڑا محل نما گھر ہے، اسے کس طرح sub-jail قرار دے دیا گیا ہے؟ یہ نا انصافی ہے۔

Mr. Chairman: You want reasons for that?

وہ reasons بتادیں گے۔

سینیٹر ملک محمد رفیق رجوانہ: جناب چیئرمین! سب سے بڑی reason security کی دی جانے لگی اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

جناب چیئرمین: دیکھیں! جب ہم اپوزیشن میں رہے اور political process میں رہے تو اٹک کا قلعہ بھی نظر آتا ہے۔

سینیٹر ملک محمد رفیق رجوانہ: جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی rest house میں بھیجا گیا، وہ تو سیاسی کام ہے، انہوں نے تو آئین سے

عداری کی، انہوں نے عدلیہ کی تضحیک کی، انہوں نے ججوں کو جس بے جا میں رکھا، ان کے خلاف لال مسجد کے مقدمات ہیں، ان کے خلاف اکبر بگٹی کا مقدمہ ہے، ایسے serious cases of heinous crimes ہیں and he has been given such a protection کہ ایک آدمی جو اتنے جرائم کرتا ہے اس کے گھر کو sub-jail قرار دے کر confine کیا گیا and the word judicial lock up has been used, how judicial lock up? House is not a lock up.

یہی گزارش کروں گا کہ this House should pass a resolution that whatsoever is being done, that is also siding with that man, why it has been done so? It is mockery of law.

جناب چیئرمین: جی ظفر علی شاہ صاحب۔

سینیٹر سید ظفر علی شاہ: شکریہ، جناب چیئرمین! آپ خود بھی اس سے واقف ہیں کہ there are two types of arrests, one arrest for trial and other arrest under Defence of Pakistan ہے۔ اگر تو موصوف کو MPO کے تحت if he has then alright, ان کے گھر کو declare کیا جاسکتا ہے لیکن rules detain 780 (a), 342 or 344 been arrested for trial in normal میں جیل جانا پڑے گا۔ اڈیالہ جیل کے Superintendent کا بیان اخبار میں چھپا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی sub-jail ہے کیونکہ اگر وہ sub-jail قرار بھی دی جائے گی تو main jail کی sub-jail قرار دی جائے گی، جبکہ main jail Adyala Superintendent deny کر رہا ہے کہ ایسا کوئی notification نہیں ہوا۔ اگر معزز وزیر داخلہ کے پاس وفاقی یا صوبائی حکومت کا کوئی notification ہے کہ اس کو sub-jail قرار دیا گیا ہے تو وہ بھی دکھا دیں۔ جناب والا! پاکستان کے شہری کو، پاکستان کے سیاسی کارکن کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو apprehension ہے۔ جناب کے علم میں ہے کہ دو بڑی constitutional courts نے ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے، reasons best known to the courts، ان کا نام ڈالا ہوا ہے۔

جناب چیئرمین! جس جگہ کو sub-jail قرار دیا گیا ہے، luckily or unluckily وہ آپ کے اور میرے علاقے میں ہے۔ وہاں ہیلی پیڈ ہے، مجھے ایک شہری کی حیثیت سے خطرہ ہے کہ کوئی hidden force اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر باہر نہ لے جائے اور ہمارے law of land کو defeat

کیا جائے، اسے بدنام کیا جائے جس طرح گل سے CNN, Sky News اور پوری دنیا میں متواتر بات چل رہی ہے۔ اس لیے جناب چیئرمین! سب سے بڑا یہ ایوان اس وقت موجود ہے۔ یہ ہمارے آئین، قانون اور ہمارے political system کے ساتھ ایک serious concern ہے۔ ان کے حمایتی اور وکلاء کہتے ہیں کہ وہ بڑے مزے سے سگار پی رہے ہیں، وہ بے شک سگار پی رہے ہیں، اڈیالہ جیل میں بھی سگار پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں ان کے لیے ایک ڈبہ سگاروں کا ہم بھی بھیج دیں گے، بے شک کافی ہیں، سگار پییں لیکن according to the law and Constitution.

جناب چیئرمین: شکریہ، جی رضاربانی صاحب۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب چیئرمین! یہ نہایت افسوس ناک بات ہے کہ یہ serious issue ہے اور گل سے، House is seized of this issue، کابینہ کے ممبران اور فاضل وزیر قانون یہاں موجود تھے، وہ notes لے رہے تھے اور آج جب وزیر برائے داخلہ ایوان میں آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ what is the issue، جناب والا! پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیئرمین پھر show کر رہی ہے کہ contempt Government کا پارلیمنٹ کے لیے کتنا ہے کہ۔۔۔

جناب چیئرمین: میاں صاحب، تھوڑی سی concession دے دیں۔

سینیٹر میاں رضاربانی: جناب والا! concession کی بات نہیں ہے۔ میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ on the floor of the House ہم فاضل وزیر صاحب کی کون سی بات کو درست مانیں؟ انہوں نے ایک breath میں کہا کہ he has been arrested and he is in a judicial lock up اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کا گھر sub-jail declare کر دیا گیا ہے تو کیا وہ اس وقت judicial lock up میں ہیں یا اپنے گھر میں ہیں؟ اگر یہ arrest کی mockery نہیں ہے اور اگر یہ Islamabad High Court کے orders کی mockery نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جب ہم ایوان میں آ رہے تھے تو electronic media پر چل رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے پارٹی لیڈروں کو وہاں بلایا ہے اور ان سے مشاورت کر رہے ہیں یا کریں گے کہ ان کا آئندہ کالانچ عمل کیا ہوگا۔ جناب والا! یہ کیسی جیل ہے، آپ بھی جیل میں رہے ہیں، میں بھی جیل میں رہا ہوں، ہم نے محترمہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی جیل دیکھی ہے، وہاں چڑیا بھی پر

نہیں مار سکتی تھی اور یہاں ان کو یہ facility دی جا رہی ہے کہ ان کے party leaders and workers آئیں اور وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں۔

If this is not a mockery of the law, if this is not a mockery of the orders of the Islamabad High Court then what else is? Will the Minister for Interior kindly make a categorical statement on this issue?

جناب چیئرمین: شکریہ، زاہد خان صاحب۔

سینیٹر محمد زاہد خان: شکریہ، جناب چیئرمین! جس طرح رضا ربانی اور دوسرے ساتھیوں نے کہا، معزز وزیر صاحب کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ کل کون responsible تھا؟ جب عدالت کے orders ہوئے کہ انہیں گرفتار کیا جائے تو پھر آپ نے اسے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے I.G. Police Islamabad سے پوچھا؟ دوسری چیز یہ کہ ان کے ساتھ آنے والے رینجرز انہیں بھگا کر لے گئے اور کیا آپ نے متعلقہ Rangers officer سے پوچھا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی؟ انہوں نے عدالت کے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ ہم نے یہی سوالات ان سے کرنے تھے، ہم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ وہ کہاں گئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس کے لیے خطرہ ہے تو اسے اٹک قلعہ میں رکھا جائے جہاں میاں نواز شریف جو منتخب وزیر اعظم تھے، اسے بھی اُدھر رکھا گیا تھا۔ وہاں اسے مارنے کے لیے کوئی نہیں جانے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیرکوں میں جا کر فوجیوں کے ساتھ رہے، یہ چیز نہیں ہے۔ جس تہ خانے میں میاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا اسی تہ خانے میں اسے رکھا جائے اور کل آواز آنے کہ یہاں دریا سے بچو اندر آرہے ہیں، سانپ اندر آرہے ہیں، یہ اس کا حق ہے، یہ حق نہیں ہے کہ بہت بڑے farm house میں رکھیں۔ رات کو میں بڑا حیران ہوا کہ Dawn News نے اس کا ایک specific interview لیا اور وہ قوم کو پیغام دے رہا تھا۔ یہ کیسی گرفتاری ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ یہ کیسی گرفتاری ہے؟ اس طرح کا double standard نہیں ہونا چاہیے۔

جناب چیئرمین: ڈاکٹر سعیدہ اقبال صاحبہ۔ ایک منٹ، Minister for Water and Power آپ جانا چاہتے ہیں؟ and you want to say something?

Dr. Musadik Malik: First of all I would like to submit my unconditional apology if I have sounded as arrogant. I had no such

intent. I may have got emotional and would like to apologize for casting any impression of arrogance. I would also like to apologize if I have been inadvertently disrespect to anyone. That was not certainly my intent. I am novice, I am Pakistani. I get emotional and I think perhaps in the stream of emotions I did not honour the decorum of the House for which I apologize. If the House okay sir, am I allowed to go?

Mr. Chairman: Thank you, Dr. Saeeda Iqbal Sahiba.

سینیٹر سعیدہ اقبال: جناب caretaker government کو بہت سوچ سمجھ کر لایا گیا تھا کہ یہ ایک غیر جانبدار حکومت ہوگی مگر ہم نے دیکھا کہ ان جیسی جانب دار تو شاید کوئی سیاسی حکومت بھی نہیں تھی خصوصاً وزیر داخلہ صاحب مستقل جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہم میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر امجد جو اس کا spokes person ہے اس نے کہا کسی نے ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی اور پولیس خود ان کو حفاظت میں لے کر گئی ہے۔ یہاں پر کل وزیر قانوں نے کہا تھا کہ ان کے اپنے کمانڈوز ان کو لے گئے۔ ان کے اپنے کمانڈوز کوئی نہیں تھے بلکہ ان کے لوگ ان کو لے گئے اور میڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کے گھر کو سب جیل بھی قرار نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو تو پانچ سال کے لیے نااہل قرار دیا تو ان کو کیا سزا دی جائے۔ This Interior Minister, if he is not aware of such a things going in this city of Islamabad. میں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سینیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ پرویز مشرف کیا کر رہا ہے تو he has no right to be an Interior Minister.

جناب چیئرمین: شکریہ، جی مشاہد اللہ خان صاحب - Khan Sahib, you will be

brief because جمعہ بھی ہے۔ پھر بعد میں آپ اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا۔

سینیٹر مشاہد اللہ خان: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جناب میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں جناب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ پرویز مشرف کے یہاں آنے کے بارے میں پھر کبھی روشنی ڈال دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آتے رہے ہیں اور ان کے کچھ مقاصد تھے۔ ان کے مقاصد بھی ہم سمجھتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نگران حکومت جو بنی ہے ہمیں ان سے

کوئی as such ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن کرانا تھا اس سے زیادہ ان کا کوئی معاملہ نہیں لیکن اس وقت پوری قوم اور اس ملک کے تمام ادارے، تمام سیاستدان، مقتدر حلقے امتحان میں ہیں۔ امتحان کیا ہے؟ کیا اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے؟ پاکستان نے دنیا میں باوقار طریقے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے جو کردار اور وقار پرویز مشرف نے مجروح کیا ہے اور کیا یہاں پر انصاف کا بول بالا ہونا ہے؟ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی ہے؟ تمام لوگوں سے یکساں سلوک ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب یہ نگران حکومت پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، ویسے نگران حکومت کی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے لیکن ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا اور یہ کالک کسی نہ کسی کے منہ پر ملی جائے گی۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں ایک شخص کو رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ تو ذرا ہمیں بتائیں، وزیر داخلہ صاحب بتادیں یا وزیر اعظم صاحب بتادیں کہ کیوں رکھا ہے وہاں پر۔ دیکھیں ماضی میں جن لوگوں کو اٹک قلعے میں رکھا گیا یا ڈیالہ جیل میں رکھا گیا، یہاں شاید کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے دس دس دفعہ جیل نہ کاٹی ہو، جس نے مظالم برداشت نہ کیے ہوں، جن کے ساتھ زیادتیاں نہ ہوئی ہوں، جن کے گھروں میں پولیس نہ گھسی ہو، جن کے بچوں کو تکالیف نہ دی گئی ہوں۔ ان کے توسارے ناکردہ گناہ تھے۔ ان میں سے کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن یہ تو ایک قومی مجرم ہے۔ اس نے اجتماعی جرائم کیے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ یہ امتیازی سلوک کریں گے تو نگران حکومت والو! میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کالک آپ کے منہ پر ملی جائے گی اور یہ بات ساری زندگی آپ کا تعاقب کرے گی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقتدر حلقوں کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ کیا وہ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں یا ایک ریٹائرڈ جرنیل کی آسانیوں کے ساتھ ہیں جو کہتا تھا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں۔

جناب چیئرمین: اذان ہو رہی ہے۔

(اس موقع پر ہاؤس میں اذان جمعہ کی آواز سنائی دی)

جناب چیئرمین: مشاہد اللہ صاحب conclude کر لیں۔

سینیٹر مشاہد اللہ خان: میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے تھے، کمانڈو صاحب کہتے تھے کہ میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں۔ سیاستدان، جن کو یہ ذلیل کرتے رہے ہیں انہوں نے کبھی ضمانتیں cancel ہونے کے بعد عدالت کے باہر قدم نہیں رکھا۔ وہ جیلوں کی چوکھٹوں کو چوم



لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے فرار نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ فرار ہوا ہے۔ کل کو یہ ملک سے بھی فرار ہو سکتا ہے۔

میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں اس وقت چار پانچ ادارے ہیں جن کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، مقتدر طبقوں کی طرف دیکھ رہی ہے، سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس نگران حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم تاریخ کے دورا ہے پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے اس ملک کو banana republic بنانا ہے یا ایک مضبوط جمہوری ملک کی حیثیت سے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عدلیہ نے اچھا کردار ادا کیا ہے۔ دیگر لوگ اور سب سیاستدان بھی انشاء اللہ اس پر متفق ہیں اور پورا پاکستان متفق ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ اٹھارہ کروڑ عوام کے لیے کوئی اور قانون ہو، ان کے لیے کوئی اور جیلیں ہوں، ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سیل ہوں، ان کو ہاتھوں پر ہتھ کڑھی باندھ کر جہازوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے ٹرکوں میں پھینکا جائے اور دوسری طرف ایک جرنیل جس نے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا، جس نے اس ملک میں آزادی کے نعرے لگوا دیے، جس نے اکبر بگٹی کو قتل کیا، اس کو آپ اتنے بڑے فارم ہاؤس میں رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ساری ذمہ داری نگران حکومت کی ہے۔ یہ ان کے لیے امتحان ہے۔ یہ اگر تاریخ میں اپنا نام گولڈن الفاظ میں لکھوانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس چند دن ہیں۔ وقت کم ہے۔

جناب چیئرمین: شکریہ، فرحت اللہ بابر صاحب۔ وزیر داخلہ صاحب، آپ فرحت اللہ بابر

صاحب کو سن لیں then you can leave.

سینیٹر فرحت اللہ بابر: شکریہ جناب چیئرمین، مجھے فاضل وزیر داخلہ کے بیان سے بڑا افسوس ہوا کہ ان کو پوری صورت حال کا پتا تک نہیں تھا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ سوال کیا ہے۔ جناب چیئرمین، جب ان کے فارم ہاؤس کو سب جیل declare کیا گیا تو ظاہر ہے کوئی فیصلہ ہوا ہوگا اور یہ فیصلہ کسی نے کیا ہوگا۔ میں فاضل وزیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ جواب دیں کہ کیا یہ فیصلہ ان کا تھا، کیا یہ فیصلہ وزیر اعظم کا تھا، کیا یہ فیصلہ کابینہ کا تھا یا کچھ اور قوتوں کا فیصلہ تھا۔ جناب چیئرمین! اس سوال کا جواب لازمی آنا چاہیے کیونکہ اس سوال کے جواب پر آئندہ جمہوریت کی بنیادوں کا تعلق ہے۔ مشرف تو کہتا تھا کہ میں جیل سے گھبرانے والا نہیں اور کل جو منظر ہم نے دیکھا جناب

چیئر مین! مجھے بہت افسوس ہوا کہ پاکستان کے دو بڑے اعلیٰ عہدوں پر متمکن شخص نے کل خود اپنا مذاق اڑایا اور ان عہدوں کا مذاق اڑایا جن پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ پڑھ کر سنا تا ہوں کہ آج واشنگٹن پوسٹ جو ایک معتبر اخبار ہے اس نے headline چھاپی ہے۔ جناب چیئر مین! بحیثیت پاکستانی میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ جیسا معتبر اخبار ہمارے ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف اور ایک خود ساختہ صدر کے بارے میں لکھتا ہے:

“Musharraf, the one time Pakistan military ruler, who said he was not afraid of Jail, raced away from the court with his security detailed after a Judge ordered his arrest in a treason case.”

جناب چیئر مین! دوسرا جملہ دل دکھا دینے والا ہے:

“Local broadcast footage captured scene of Musharraf taking flight in a black SUV with a member of his security perched on the bulletproof vehicle side.”

جناب چیئر مین! میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی ہم میں سے ہر شخص کو بڑا افسوس ہوگا کہ ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف، خود ساختہ صدر نے خود اپنا یہ حشر کیا۔ جس طرح مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا لیکن یہ کمانڈو جس پر حکومت پاکستان نے کتنا خرچہ کیا ہوگا، ایک کمانڈو، تیز بھاگنے والا، میرا really خیال یہ تھا کہ یہ دشمن کے پیچھے تیز بھاگے گا۔ کتنا افسوسناک منظر تھا کہ اس نے وہ کمانڈو ٹریننگ کیسے استعمال کی، فرار ہونے میں استعمال کی۔

Mr. Chairman: Thank you, after concluding it we want to have a response from the Interior Minister.

سینیٹر فرحت اللہ بابر: جناب چیئر مین! حدیث ہے کہ (عربی) جب امتحان کا وقت آتا ہے تو یا تو وہ شخص جس پر امتحان آتا ہے صاحب تکریم ہو جاتا ہے یا وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کل جب اس پر امتحان آیا۔۔۔

Mr. Chairman: Thank you, Babar sahib, lot has been said, now let the Interior Minister respond. Yes, Interior Minister sahib.

Malik Mohammad Habib Khan: Mr. Chairman, sir, I would not like to get into non issues, I would talk specifically on this Musharraf's case. I think, I didn't commit any mistake by requesting that what is the issue because I was in a meeting and I just got a chit that I am being called here, I must clarify that I have to request the House and the Chairman as to what is the issue on which I have to speak, there are many issues.

Mr. Chairman: That has been done now, let's come to the point now.

Malik Mohammad Habib Khan: I am coming to the point now.

*(Interruption)*

جناب چیئرمین: وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جواب سے آپ مطمئن ہو جائیں۔ وہ اپنا response دے رہے ہیں۔ آپ اس کو سنیں۔

Malik Mohammad Habib Khan: Please allow me to speak.

Mr. Chairman: Interior Minister, please address the Chair, do not address to the members.

Malik Mohammad Habib Khan: O.K. I just got the information. We are in touch with whole process of Musharraf's case right from moment one and we are in touch with the whole exercise. We and the entire police have been busy in this. I am supervising the whole process, there are certain problems coming in the way because of his position.

*{At this stage there was rumpus in the House}*

Malik Mohammad Habib Khan: Please let me complete but in spite of that for the first time in the history of Pakistan.

*(Interruption)*

Malik Mohammad Habib Khan: Let me complete.

Mr. Chairman: Interior Minister *sahib*, please address to

the Chair. جی آپ بتائیں۔

Malik Mohammad Habib Khan: The point is that with all those difficulties, we have been able to arrest the dictator for the first time in the history of Pakistan, the police has done and we have taken two days' remand and he is in police custody.

Mr. Chairman: O.K. Mian *sahib*.

میاں صاحب! تشریف تو رکھیں۔

Interior Minister *sahib*, law should take its course that is the directive of this House. We believe in supremacy of law. We believe in supremacy of the Constitution. The House certainly wants that everything should proceed in accordance with the law.

Malik Mohammad Habib Khan: That I will of course ensure but I would request that the honourable Minister should be is not a proper language. تو اور میں addressed properly.

جناب چیئرمین: جی، آپ تشریف رکھیں۔

Mr. Chairman: I will now read out the prorogation order received from the President.

“In exercise of the powers conferred by Article 54 (1) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I do hereby prorogue the Senate Session on the conclusion of its business on 19<sup>th</sup> April, 2013”.

Sd/

(Asif Ali Zardari)

President,

Islamic Republic of Pakistan

-----  
[The House was then prorogued sine die.]  
-----